

COVID-19 وکیسین سہت علق اہم عمل و مات

مفعوظ اور مؤثوی کھوین آپ آپ کے عزیزوں اور وی کونٹی کو مفعوظ کونھن میں
مہ کوئی ہے۔

اپنی وکسین کے لی پشگی جسٹو کسے کریں

صفوس کوکی (Skokie) ے باشن دوں کے لی ہے:

- ال حظ کوویں www.skokie.org
- ای ہل covid19@skokie.org
- مس کوکی COVID-19 انٹلین کو 7726-779-847 پو کال کریں۔

نٹھ شور کے مریضوں کے لی ہے:

- ال حظ کوویں www.northshore.org/list
- 847-HEALTH-9 پکال کوویں

DPH COVID وکیسین اہ الین: 833-621-1284

ی انرکھی رک آپ کو COVID وکیسین سے COVID کن ہو سکتا

جہن ے وکسین کا ٹیکہ کوویں لی



وکسین لینے کی ہری وجہ بہتس ادہ ہے۔
ہ COVID سے من انہیں چلتا/چلتی۔
م جھے بلینے خلدان سے م صحت ہے اور وہ
م جھے بچلے کتے میں اور ہی ان کے سرتھ
رینا چلتا/چلتی ہوں۔

ی وکیسین لینا اور حفاظت و تلبی رپیر عم کھرن ا
م محفوظ رہنے اور اس واسے
کیلن کے بہترین راستہ ہے۔

— ٹھٹھری ش می ا لانی اوی، چیف مہکمل ٹیسر، نٹھ
شوری ویوسٹی ہلتھ سٹم

ضاطی اقامات:
بلنی وکیسین میں بلینے جسے کی
ذمہ داری نہ ہوں۔
• جب آپکی باری ٹی ہے تو
وکسین کا ٹیکہ لگوائیں۔
• بھڑ اور اجتماعات سے
پریز کریں۔
• بلینا ماس کپ بھیں۔
• بلینے مٹھوں کو ککٹر
دھوئیں۔
• وسروں سے ٹکٹکی کا
فطلنہ رکھیں۔